


# CAPITA



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## **ENGLISH**

To avoid risk of the cabinets tipping, in combination with the bar solution, the cabinets must be carefully screwed into the wall or floor. The cabinets must also be screwed together. NOTE! Screws or fittings to fix the furniture to the wall/floor are not included. Always choose screws and fittings that are specially suited to the material in your wall/floor. If you are uncertain, contact the IKEA sales staff or a specialised retailer.

## **DEUTSCH**

Um das Kippen der Schrank-/Barkombination zu vermeiden, bitte darauf achten, dass die Schrauben fest in Boden oder Wand verankert sind. Auch die Schränke müssen miteinander verschraubt werden. Achtung! Beschläge zur Wand-/Bodenbefestigung sind nicht beige packt. Wählen Sie Beschläge, die für das entsprechende Boden-/Wandmaterial geeignet sind. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter von IKEA oder auch der örtliche Fachhandel zur Verfügung.

## **FRANÇAIS**

Pour éviter que les éléments ne tombent lorsqu'ils sont combinés à la solution bar, ils doivent être solidement ancrés dans le mur ou au sol. Les éléments doivent aussi être vissés ensemble. ATTENTION ! Les vis et ferrures pour fixer le meuble au mur ou au plafond ne sont pas incluses. Pensez à choisir des vis ou ferrures adaptées au matériau du mur/sol. En cas de doute, demandez conseil à un vendeur spécialisé.

## **NEDERLANDS**

Om te voorkomen dat de kasten kantelen of omvallen als ze gecombineerd worden met de bar, moeten de kasten goed in de wand of de vloer worden vastgeschroefd. De kasten moeten ook aan elkaar worden geschroefd. N.B. Excl. schroeven en beslag om het meubel aan de wand/vloer te bevestigen. Kies schroeven en beslag die specifiek geschikt zijn voor het materiaal van de wand/vloer. Raadpleeg bij twijfel een verkoopmedewerker van IKEA of de vakhandel.

## **DANSK**

For at undgå at skabet vælter, når det kombineres med barløsningen, skal skabet monteres ordentligt til væg eller gulv. Skabet skal også skrues sammen. BEMÆRK! Skruer og rawlplugs til at fastspænde møblet i væg/gulv medfører ikke. Vælg skruer og rawlplugs, som er særligt vel egnet til væg-/gulvmaterialet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte IKEA salgsmedar bejdere eller et byggemarked.

## **ÍSLENSKA**

Til að koma í veg fyrir að skáparnir velti um koll þegar barborðið er haft með í innréttningunni, þá þarf að skrúfa þá við vegg eða gólf. Og það á líka að skrúfa þá saman. ATHUGIÐ! Skrúfur eða festingar til að festa saman skápa eða skrúfa í gólf fylgja ekki með. Notið alltaf tileigandi festingar sem ætlað er fyrir skápa/gólfefni. Ef þú ert ekki viss, hafðu þá samband við starfsfólk eða aðila sem sérhæfir sig í þessum efnum.

## **NORSK**

For unngå risikoen for at skapene skal falle ned når de kombineres med barløsningen, må skapene skrues ordentlig fast i vegg eller gulv. Skapene må også skrues sammen.

OBS! Skruer og beslag til å feste møbelet i vegg/gulv følger ikke med. Velg skruer og beslag som er spesielt beregnet for vegg-/gulvmaterialet. Kontakt salgspersonalet til IKEA eller en faghandel dersom du er usikker.

## **SUOMI**

Kaapit on kiinnitettävä hyvin seinään tai lattiaan jotta ne eivät kaatuisi asennettaessa yhteen baariratkaisun kanssa. Kaapit on myös kiinnitettävä ruuveilla toisiinsa. HUOM.! Ruuvit ja kiinnikkeet seinään/lattiaan kiinnittämistä varten eivät sisällä pakkaukseen. Valitse sellaiset ruuvit ja kiinnikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu seinä-/lattiamateriaalillesi. Jos olet epävarma, ota yhteyttä IKEAn henkilökuntaan tai muuhun asiantuntijaan.

## **SVENSKA**

För att undvika risken för att skäpen ska falla när de kombineras med barlösningen, måste skäpen skruvas ordentligt fast i vägg eller golv. Skäpen måste också skruvas ihop. OBS! Skruvar och beslag för att fästa möbeln i vägg/golv ingår inte. Välj skruvar och beslag som är särskilt avpassade för vägg-/golvmaterialen. Om du är osäker, kontakta IKEAs säljpersonal eller fackhandel.

## **ČESKY**

Pro zamezení rizika pádu skříněk s konzolou, musí být skříňky pečlivě přišroubovány do zdi či podlahy. Skříňky musí být také sešroubovány dohromady. UPOZORNĚNÍ! Šrouby nebo kování pro upevnění nábytku ke zdi/podlaze nejsou součástí výrobku. Vždy vyberte šrouby a kování, které jsou vhodné pro vaši zed/podlahu. Pokud si nejste jisti, kontaktujte specializovaného prodejce.

## **ESPAÑOL**

Para evitar que los armarios se caigan cuando se combinan con el bar, hay que atornillarlos correctamente en la pared o en el suelo. También hay que unir los armarios con tornillos. ¡ADVERTENCIA! No se incluyen los tornillos y herrajes para sujetar el mueble en la pared/el suelo. Elige tornillo y herrajes que se adapten al material de la pared/del suelo. Si tienes dudas, ponte en contacto con personal de ventas de IKEA o con una tienda especializada.

## **ITALIANO**

Per evitare il rischio che i mobili si ribaltino quando vengono coordinati con un piano bar, devono essere fissati bene alla parete o al pavimento. I mobili devono anche essere avvitati tra loro. N.B. Le viti e gli accessori per fissare i mobili alla parete o al pavimento non sono inclusi. Scegli viti e accessori adatti al materiale della tua parete o del tuo pavimento. Se hai dubbi, rivolgiti al personale di IKEA o a un rivenditore specializzato.

## **MAGYAR**

Hogy megelőzd a szekrény felborulását, ajánlatos a bárkombinációt óvatosan a falhoz vagy a padlóhoz csavarozni. A bárcsolót szintén csavarral kell rögzíteni a szekrényhez.

MEGJEGYZÉS! A rögzítőcsavarokat, tipiket külön kell megvásárolnod, ezeket a csomagolás nem tartalmazza. Mindig a lakásban található falhoz/ padlóhoz megfelelő csavart válassz. Ha bizonytalan vagy a választásban, szerelésben, kérj segítséget az IKEA áruházban a szakképzett személyzettől vagy szerelőtől.

## **POLSKI**

Aby uniknąć niebezpieczeństwwa przewrócenia się szafek w kombinacji z rozwiązaniem belkowym, należy ostrożnie przykręcić szafki do ściany lub podłogi. Należy je także przykręcić razem. UWAGA! Komplet nie zawiera wkrętów ani mocowań do przymocowania mebla do ściany/ podłogi. Wybieraj zawsze wkręty i umocowania odpowiednie do twojej ściany/podłogi. W przypadku pytań skontaktuj się z pracownikami sklepu IKEA lub innym profesjonalnym sklepem.

## **LIETUVIŲ KLB.**

Kad su baru suk komplektuotos spintelės ne-kristą, jas reikia tvirtai prisukti prie grindų ar sienų. Be to, jos turi būti sutvirtintos ir tarpusavyje.

DĖMESIO! Baldų tvirtinimo prie sienų/grindų detalės nepridedamos. Visada rinkitės varžtus ir tvirtinimo detales pagal sienų/ grindų apdailos medžiagas. Jei abejojate, kreipkitės į IKEA pardavėjus ar specializuotas parduotuvės.

## **PORUGUÊS**

Para prevenir o risco de queda dos armários, em combinação com a solução da barra, os armários deverão ser cuidadosamente firmados com parafusos às paredes ou ao pavimento. Os armários também deverão ser aparafusados um ao outro. **ATENÇÃO!** Os parafusos ou ferragens para firmar móveis à parede/pavimento não estão incluídos. Escolha sempre parafusos e ferragens especialmente apropriados para o material da sua parede/pavimento. Se não tiver certeza, contacte com o pessoal de vendas da IKEA ou com um perito.

## **ROMÂNA**

Pentru a evita riscul înclinării corpurilor, în combinație cu soluția bar, corpurile trebuie să fie fixate la perete sau podea. Corpurile trebuie să fie asemenea însurubate împreună. **ATENȚIE!** Șuruburile și accesorii pentru fixarea mobiliei pe perete/podea nu sunt incluse. Alegeți întotdeauna șuruburi și accesorii adecvate materialului peretelui/podelei tale. Dacă ai nelămuriri, contactează personalul de vânzări IKEA sau un dealer specializat.

## **SLOVENSKY**

Aby sme sa vyhli riziku pádu skrínky s konzolou, skrinka musí byť dôkladne prieskrobovaná na stenu alebo na podlahu. **UPOZORNENIE!** Skrutky alebo kovania na pripomienanie nábytku na stenu/podlahe nie sú súčasťou balenia. Vždy zvoľte skrutky vhodné do Vašej steny.

## **БЪЛГАРСКИ**

За да избегнете риска от прекатурване на шкафовете, комбинирани с барплота, те трябва да бъдат здраво закрепени за стената или пода. **ВАЖНО!** Винтове и фитинги за монтиране към тавана не са осигурени. Изберете винтове и фитинги, специално съобразени с материала на вашия таван и с нужната здравина. Ако имате въпроси, свържете се със специализиран доставчик.

## **HRVATSKI**

Kako bi izbjegli rizik od naginjanja elemenata, u kombinaciji sa šipkom, elemente morate pažljivo pričvrstiti vijcima na zid ili pod. Elementi se moraju zajedno pričvrstiti vijcima.

**ZAPAMTITE!** Vijci i okovi za pričvršćivanje namještaja na zid/pod nisu uključeni. Uvijek odaberite vijke i okove koji točno odgovaraju vrsti zida/poda. Ako niste sigurni, kontaktirajte IKEA robnu kuću ili specijaliziranu prodavaonicu.

## **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος τα ντουλάπια να πάρουν κλίση, θα πρέπει να στερεώνονται πολύ προσεχτικά στον τοίχο ή στο δάπεδο. Τα ντουλάπια θα πρέπει επίσης να βιδώνονται μεταξύ τους, ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι βίδες ή τα εξαρτήματα για τη στερέωση των επίπλων στον τοίχο ή στο δάπεδο δεν περιλαμβάνονται. Επιλέγετε πάντοτε βίδες και εξαρτήματα, τα οποία να είναι κατάλληλα για το υλικό του τοίχου ή του δαπέδου σας. Εάν δεν είστε σίγουροι, ελάτε σε επαφή με το προσωπικό πωλήσεων της IKEA ή με ένα ειδικό κατάστημα.

## **РУССКИЙ**

Во избежание падения шкафов в комбинации с барной стойкой их необходимо как следует прикрепить шурупами к стене/полу. Также шкафы необходимо скрепить между собой шурупами.

**ВНИМАНИЕ!** Шурупы или крепления для фиксации мебели на стене/полу нелагаются. Выбирайте шурупы и крепления, которые подходят к материалу Ваших стен/полов. В случае каких-либо сомнений обратитесь к консультантам магазина ИКЕА или в специализированный магазин.

## **SRPSKI**

Da se element ne bi naginjao zajedno sa barom, pažljivo ga prišrafite u zid ili pod. I elemente morate zajedno prišrafiti.

**PAŽNJA!** Nisu dati tiplovi ili okovi za prišrafljivanje elemenata na zid/pod. Uvek odaberite tiplove i okove koji odgovaraju vrsti zida/poda. Ako ne znate koje, pitajte osoblje IKEA ili specijalizovanog prodavaca.

## SLOVENŠČINA

Da preprečite nevarnost, da se elementi prevrnejo, naj bodo vsi dobro pritrjeni na steno ali tla. Elemente privijte skupaj. POZOR! Vlakji ali okovje za pritrjevanje pohištva na steno/tla niso priloženi. Vedno izberite tako okovje in vijake, ki ustrezajo sestavi vaše stene/tal. Če niste prepričani, se obrnite na naše prodajalce ali najbližje ga specializiranega dobavitelja.

## TÜRKÇE

Dolabın düşme riskini önlemek için, bar çözümü ile birlikte, dolaplar kesinlikle duvara veya zemine vidalanmalıdır. Dolaplar kesinlikle birlikte vidalanmalıdır. NOT! Mobilyanın duvar/zemine montajında kullanılan vida veya bağlantı parçaları dahil değildir. Her zaman duvar/zemininize uygun vida ve bağlantı parçalarını seçin. Emin değilseniz, IKEA satış elemanları veya ilgili araç-geçerleri satan dükkanlara başvurunuz.

## 中文

为防止柜件在安装搁板后发生倾倒事故，有必要将柜件与墙壁或地面连接固定。柜件之间也应进行连接。注意！产品包装不含墙/地面连接固定螺钉。应根据墙体/地面材料，选择适用的安装螺钉。如有疑问，须向宜家商场有关销售人员或专业五金店咨询求助。

## 繁中

為避免廚櫃掉落,請將廚櫃連同支撐架穩固地安裝於牆上或地板上.所有的櫃子必須一起安裝.注意!安裝家具所需的螺絲或配件需另購買.請選擇適合您家牆壁/地板材質的螺絲和配件的選擇.如有疑問,請詢問IKEA銷售人員或專業的零售商.

## 한국어

캐비닛이 바닥과 함께 넘어지지 않도록 하려면 캐비닛을 벽 또는 바닥에 단단하게 고정해야 합니다. 캐비닛끼리도 나사로 연결해야 합니다. 주의! 벽/바닥에 가구를 고정하기 위한 나사와 부속품은 포함되어 있지 않습니다. 벽/바닥에 알맞는 나사와 부속품을 선택하여 사용하세요. 의문 사항이 있다면 IKEA 매장 직원 또는 전문가에게 문의하세요.

## 日本語

カウンターを取り付けた際キャビネットの転倒を防ぐには、キャビネットを壁や床にネジでしっかりと固定してください。注意！キャビネット同士もネジで留めてください。注意！キャビネットを壁や床に取り付けるためのネジや留め具は含まれていません。壁や床の材質に合ったネジや留め具を使用してください。ご不明の場合には、イケアの販売員又はお近くの専門店にご相談ください。

## BAHASA INDONESIA

Untuk menghindari kabinet roboh, dalam kombinasi dengan palang penyelesaian, kabinet harus disekrup dengan hati-hati ke dalam dinding atau lantai. Kabinet harus disekrup secara bersama. CATATAN! Sekrup dan kelengkapan untuk memasang perabot ke dinding/lantai tidak disertakan. Pilihlah selalu sekrup atau kelengkapan yang sesuai dengan bahan dinding/lantai. Jika anda ragu, silahkan hubungi staff sales IKEA atau dealer spesialis.

## BAHASA MALAYSIA





Untuk mengelakkan kabinet rebah jika dikombinasikan dengan bar penyelesaian masalah, kabinet mestilah diskrukan secara berhati-hati ke dinding atau lantai. Kabinet juga mesti diskrukan bersama. NOTA! Skru atau pelengkap untuk memasang perabot ke dinding/lantai tidak disertakan. Sentiasa pilih skru dan pelengkap yang paling sesuai dengan bahan binaan dinding/lantai anda. Jika anda tidak pasti, hubungi kakitangan jualan IKEA atau wakil penjaja yang khusus.

## عربى


لتفادى خطر إنقلاب الخزان، بالترابط مع حلّ البار، يجب تثبيتها بتأيُّد على الحائط أو في الأرضية . يجب أيضًا تثبيت الخزان بعضها البعض. ملاحظة! المسامير والتركيبات لتنشيط الأثاث على الحائط/الأرض ليست مضمونة. يتم اختبار البراغي والتجهيزات الملازمة لمواد الجدار/الأرض، في حال الشك، بتحسين الإتصال بموظفي إيكيا أو بالوكيل المختص.

## ไทย


ในการติดตั้งข้ออ้างสแตนเลสบนตัวตู้ จำเป็นต้องยึด-  
คุ้มดินนังหรือพื้นให้มั่นคง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ตู้-  
สามารถรับน้ำหนักของข้าวอียงที่ติดตั้งเพิ่มเติมได้ถึงขีน มี  
จะนั่นอาจทำให้ตู้อ้างสแตนเลสบุพพ์พื้นหรือผนังที่ต้องการยึด หาก  
คุณไม่แน่ใจว่าควรเลือกใช้สกรูชนิดใด สามารถติดต่อ-  
สอบถามพนักงานของ IKEA หรือสอบถามได้ที่ร้าน-  
จำหน่ายอุปกรณ์ใกล้บ้าน



8x





2x




2x

1







**2**



**3**



**4**



**5**

